

موضوع الخطبة: كورونا-الداء والدواء

الخطيب : فضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي / حفظه الله

لغة الترجمة : الأردو

المترجم : سيف الرحمن التيمي

خطبة کا موضوع:

كورونا- بیماری اور علاج

پہلا خطبہ:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله-

حمد وصلاة کے بعد:

سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے، سب سے بدترین چیز دین میں ایجاد کردہ بدعتیں ہیں، اور (دین میں) ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)

• اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ اس کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو بھی خیر و شر، خوش حالی و تنگ حالی طاری کرتا ہے، وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے، ان حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اطاعت کو انجام دینے اور نافرمانی سے گریز کرنے میں وہ کس قدر صبر سے کام لیتے ہیں، اس کی آزمائش، نیز اللہ تعالیٰ ان پر جان و مال اور پھل (اور غذا) کی کمی مقدر کر کے بھی ان کے صبر کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)

ترجمہ: ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

یعنی: ہم مالدار، فقیری، عزت و ذلت، زندگی و موت، تندرستی و بیماری اور وبا و عافیت کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ تم میں کون اچھا عمل اور توبہ و انابت کرتا ہے، اور کون گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور اس تقدیر سے اللہ کا کیا مقصد ہے، اس سے غافل رہتا ہے۔

• اے مومنو! یہ بات مخفی نہیں کہ موجودہ وقت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر جو مصیبتیں مقدر کی ہیں، ان میں ایک عظیم مصیبت کو رونا کا وبا ہے، یہ ایسا وبا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی معمولات زندگی معطل ہو گئیں، بہت وفاتیں ہوئیں، مادی اور انسانی جانوں کا خسارہ ہوا، اس لئے صاحب بصیرت مسلمان کو چاہئے کہ اس سے نصیحت و عبرت حاصل کرے، کیوں کہ یہ وبا یوں ہی بے وجہ نہیں واقع ہوا ہے، اللہ اس سے بری ہے، بلکہ اللہ نے عظیم حکمت کی وجہ سے اسے مقدر فرمایا ہے، جسے اللہ نے قرآن کریم میں بارہا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ گناہوں اور نافرمانیوں میں غرق ہو چکے ہیں، اس لئے اللہ نے انہیں دنیا میں ہی نمونہ کے طور

پر ان کے اعمال کا بدلہ دکھا دیا، تاکہ وہ ان اعمال سے باز آجائیں جن کے سبب ان کی زندگی میں یہ بگاڑ رونما ہو رہا ہے، تاکہ ان کے حالات درست ہو جائیں اور وہ سیدھے ڈگر پر آجائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (ظَهَرَ
 الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)
 ترجمہ: خشکی اور تری میں لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ اس لئے کہ انہیں ان کے
 بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے (بہت) ممکن ہے کہ وہ باز آجائیں۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)

ترجمہ: تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو
 بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔

● معلوم ہوا کہ اس عمومی وبا کی وجہ یہی بے راہ روی اور نافرمانی ہے، جب کہ نافرمان انسان بغیر کسی خوف و خطر
 کے ان مناظر کا مشاہدہ کر رہا ہے، میڈیا میں بگاڑ عام ہو چکا ہے، اس کے اندر رقص و سرود، فحاشی، دین اور
 دیندار لوگوں کا مزاق عام ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ماہ رمضان میں بھی اس سے گریز نہیں کیا جاتا، سودی
 معاملات ایک عام سی بات ہو چکی ہے جسے برائی اور فساد سے موسوم بھی نہیں کیا جاتا، کاروباری مقامات
 اور بازاروں میں بے پردگی و عریانیت اور مردوزن کا اختلاط اپنے عروج پر ہے، خواتین حجاب کے معاملے میں
 لا پرواہی برتنے لگی ہیں، فتنہ انگیز نقابوں کی تو بات ہی نہ کریں، جو زرق برق اور حد درجہ تنگ ہوتے ہیں،
 نمازوں کے اوقات میں سوئے رہنا، مسجدوں سے لا تعلق رکھنا، نماز کے وقت میں خرید و فروخت میں
 مشغول رہنا ایسے امور ہیں کہ جن پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، تو کیا ان برائیوں کے بعد بھی اس بلائے
 عام کا نازل ہونا کوئی تعجب خیز بات ہے؟

● اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ جن حکمتوں کے پیش نظر بیماریوں اور وباؤں کو مقدر کرتا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ
 بندے کا دل اللہ سے وابستہ رہے، وہ یہ یاد رکھے کہ وہ جس نعمت و مالداری سے محظوظ ہو رہا ہے وہ اللہ کی عطا

کردہ روزی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کسی بھی لمحے تبدیل کر سکتا ہے، اس کو یاد کر کے بندہ حکم الہی کا پابند رہتا ہے، اس کی نافرمانی میں مبتلا ہونے سے گریز کرتا ہے، تاکہ اس کی نعمت زائل نہ ہو جائے، کیوں کہ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے تو وہ باقی رہتی ہیں اور جب ان کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ زائل ہو جاتی ہیں۔

• بیماریوں اور وباؤں کو مسلط کرنے میں اللہ کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے غافل اور نافرمان بندوں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں، اپنے خالق سے توبہ و انابت کریں اور یہ جان لیں کہ ان کا ایک پروردگار ہے جو ان کی نگرانی کر رہا ہے، وہ گناہوں پر گرفت کرتا اور سزا سے دوچار کرتا ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے: (وَبَلَّوْنَاھُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ) ترجمہ: ہم ان کو خوش حالیوں اور بد حالیوں سے آزما رہے ہیں کہ شاید باز آجائیں۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (فَلَوْلَا اِذْ جَاءَھُمْ بِاَسْنَا تَضَرَّعُوْا)

ترجمہ: جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟

• اس وبا کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بعض نافرمان بندوں کی سخت دلی ظاہر ہو گئی جو اس وبا کے زمانے میں بھی گناہوں میں ملوث رہے، شیطان ان کے لئے نافرمانیوں کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ یہ گمان کرنے لگے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور کائنات کے بگاڑ اور مصیبتوں کے واقع ہونے میں ان کے ان اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے، ان نافرمانیوں اور غفلت کے باوجود اللہ تعالیٰ بطور آزمائش انہیں مہلت دیتا اور ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ اچانک گرفت میں آجائیں،

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (سَنَسْتَدْرِجُھُمْ مِنْ حَيْثُ لَا یَعْلَمُوْنَ وَاْمَلِیْ ھُمْ اِنَّ کَیْدِیْ مَتِیْنٌ)

ترجمہ: ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

نیز فرمان باری تعالیٰ ہے: (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ)

ترجمہ: پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔

مزید اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ)

ترجمہ: ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔

یعنی: وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔

- بیماریوں اور وباؤں کو مقدر کرنے میں اللہ کی ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ ان پر صبر اور احتساب اجر کرنے والوں اور (تقدیر الہی) پر اپنی رضامندی ظاہر کرنے اور جزع فزع سے دور رہنے والوں کے لئے ثواب مرتب ہوتے ہیں، نبی ﷺ کی حدیث ہے: "مومن کا بھی عجب حال ہے۔ اس کا ثواب کسی بھی صورت میں رائیگاں نہیں ہوتا۔ یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اس میں بھی ثواب ہے اور جب اس کو نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے اس میں بھی ثواب ہے"۔¹

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد، اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا" ²۔

• اس وبا میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس چھوٹے سے وبا کے مقابلے میں انسان کی کمزوری و عاجزی ظاہر ہو چکی ہے، چنانچہ یہ قومیں جو عروج و ترقی، تہذیب و تمدن، ٹکنالوجی، ایجادات اور نت نئی تحقیقات میں ایک عظیم مقام پر فائز ہیں، وہ اس چھوٹے سے وبا کے سامنے حیران و ششدر اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرتی رہیں، کتنے ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ: (ہم سے زیادہ طاقتور اور زور آور کون ہے) لیکن اس وبا کے سامنے اس کا زور پسپا ہوتا نظر آیا، دوسروں سے لاپرواہ ہو کر خود اپنے میں مشغول ہو کر رہ گئے، اللہ نے سچ فرمایا: (وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ)

ترجمہ: کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقتیکہ وعدہ الہی آپہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

نیز فرمان باری تعالیٰ ہے: (فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

2 اسے ترمذی (۲۳۹۹) نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ اسی کے روایت کردہ ہیں، ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے، نیز اسے احمد (۷۸۵۹) نے بھی روایت کیا ہے، دیکھیں: (السلسلة الصحيحة: ۲۲۸۰)۔

ترجمہ: پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زور دار سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وَكَمَّ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا)

ترجمہ: ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں۔

• اے مسلمانو! تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ امت کو لاحق ہونے والے اس وبا کو محض مادی اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے اینٹی بائیوٹکس لینے یا وبا کو اس کی جائے وقوع میں ہی محصور رکھنے میں کوتاہی کرنا، اور اس طرح کے وہ اسباب جنہیں وہ لوگ دہراتے رہتے ہیں جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ناقص مادیاتی نظریہ ہے اور علم اور ایمان کی کمی پر دلالت کرتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس وبا کو مقدر کیا اور صرف اسی کے ہاتھ میں اس کو دور کرنا بھی ہے، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا: (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۚ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۚ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)

ترجمہ: کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آپڑے جس وقت وہ سوتے ہوں اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آپڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں۔ کیا وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے۔ اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آگئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا نُّظَرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ)

ترجمہ: آپ کہئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو سہی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔

• اس وباء میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرنے کی بجائی برقرار رکھنے، صغیر متحرک رکھنے اور حاکم اور رعیہ کے درمیان محبت برقرار رکھنے کے سبب (اس وباء سے) محفوظ رکھا، جیسے گھروں کو لازم پکڑنا، گھومنے پھرنے سے باز رہنا، احتیاطی اسباب اور حفاظتی تدابیر اور صحت سے متعلق رہنمائیوں پر عمل کرنا تاکہ اس وباء کے شکار نہ ہوں۔ (ان اسباب کی وجہ سے حاصل ہونے والی) عافیت و سلامتی میں جو عظیم مصلحت تھی وہ ظاہر ہوئی۔

• اللہ کے بندو! اللہ کو یاد رکھو اور اس کا تقویٰ اختیار کرو، خلوت و جلوت میں اس کی نگرانی کو ذہن نشین رکھو، کسی بھی صورت میں اس سے غافل مت ہو، اس کی نافرمانی میں ملوث نہ رہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ)

ترجمہ: جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو۔

جس ذات نے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے لئے اس وباء کا شکار ہونا مقدر کیا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں بھی اس کی زد میں لے لے، بس لئے تمام گناہوں سے صدق دل کے ساتھ توبہ کریں، توبہ ہی اس وبائے عام سے نکلنے کی کنجی ہے، جیسا کہ عام الرمادة (سنہ ۱۸ھ) میں جب لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے تو عمر

رضی اللہ عنہ نے کیا، وہ لوگوں کے ساتھ نماز استسقاء کے لئے نکلے اور دعا کی: (اللهم ما نزل البلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وهذه أيدنا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة)
 ترجمہ: اے اللہ! گناہ کی وجہ سے ہی مصیبت نازل ہوتی ہے، توبہ سے ہی وہ دور ہوتی ہے، ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ہماری پیشانیاں توبہ کے ساتھ تیرے درپر جھکی ہوئی ہیں۔

• اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن عظیم کی برکت سے مالا مال کرے، مجھے اور آپ کو اس کی آیتوں اور حکمت پر مبنی نصیحت سے نفع پہنچائے، میں اپنی یہ بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے بخشش کی دعا کریں، یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو خوب معاف کرتا ہے۔

دوسرا خطبہ:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

اے مسلمانو! کورونا وبا اور دیگر آفات و شرور سے بچنے کے ساتھ اسباب و ذرائع ہیں:

پہلا: اللہ پر توکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ آفات و شرور سے بچنے کے جو حسی اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنے کے ساتھ دل سے اللہ پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)
 ترجمہ: جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔

دوسرا: یہ معرفت اور یقین رکھنا کہ اس وبا یا دیگر مصیبتوں کا واقع ہونا اور اس کا شکار ہونا اور اس سے محفوظ رہنا سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اگر انسان تمام حسی اور معنوی اسباب اختیار کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے

لئے یہ مقدر کر رکھا ہو کہ وہ اس کا شکار ہو کر رہے گا تو وہ ضرور اس کا شکار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (وَإِنْ
يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ)

ترجمہ: اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔

تیسرا: کثرت سے عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ)

ترجمہ: کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟

اس آیت کے اندر اللہ نے بندے کے لئے تمام آفت و شر سے اپنی کفایت کو اس کی صفت عبودیت سے مربوط
کیا ہے، چنانچہ جو شخص کثرت سے عبادت کرے گا اسے آفت و شر سے اسی قدر اللہ کی کفایت حاصل ہوگی۔

چوتھا: آفت و شر سے اللہ کی کفایت حاصل کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ صدق دل سے اس پر توکل کیا جائے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آفت و شر سے بچنے کے لئے حسی اسباب اختیار کرنے کے ساتھ دل سے اللہ پر اعتماد اور
بھروسہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)

ترجمہ: جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔

پانچواں: آفت و شر سے اللہ کی کفایت حاصل کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ کثرت سے نبی ﷺ پر درود بھیجا
جائے، اس کی دلیل یہ ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ وہ کثرت سے آپ پر درود
بھیجیں گے یہاں تک کہ ان کی اکثر دعا درود سے ہی عبارت ہوگی تو آپ نے فرمایا: "اب یہ درود تمہارے سب
غموں کے لیے کافی ہو گا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیئے جائیں گے" 3۔

چھٹا: آفت و شر سے اللہ کی کفایت و حفاظت حاصل کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ چاشت کے وقت چار رکعت نماز ادا کی جائے، ہر دو رکعت پر سلام پھیرا جائے، اس کی دلیل حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "اے ابن آدم! تو دن کے شروع میں میری رضا کے لیے چار رکعتیں پڑھا کر، میں پورے دن تمہارے لیے کافی ہوں گا" (4)۔

(میں پورے دن تمہارے لیے کافی ہوں گا) کا مطلب یہ ہے کہ پورے دن جو آفتیں اور نقصانہ حوادث رونما ہوتے ہیں، ان سے تمہیں محفوظ رکھوں گا۔

ساتواں: آفت و شر سے اللہ کی کفایت حاصل کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی جائے، جن میں چند اذکار درج ذیل ہیں:

- سورہ اخلاص اور معوذتین صبح اور شام تین تین دفعہ پڑھنا، اس کی دلیل نبی ﷺ کی یہ حدیث ہے جو آپ نے عبد اللہ بن خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ: «قل هو اللہ أحد» اور «المعوذتین»، («قل أعوذ برب الفلق»، «قل أعوذ برب الناس») صبح و شام تین مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ (سورتیں) تمہیں ہر شر سے بچائیں گی اور محفوظ رکھیں گی (5)۔

- عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ صبح و شام ان دعاؤں کو نہیں چھوڑتے تھے: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي» "اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا طالب ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے اپنے دین و دنیا اور اپنے اہل و

(4) اسے ترمذی (۲۴۰۷) نے ابوالدرداء اور ابوذر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔

(5) اسے ابوداؤد (۵۰۸۲) وغیرہ نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔

مال میں معافی اور عافیت کا طالب ہوں، اے اللہ! میرے عیوب چھپا دے، میرے دل کو مامون کر دے، اور میرے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں نیچے سے ہلاک کئے جانے سے“ (6)۔

• شام کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ شام ڈھلتے ہی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائیں، کیوں کہ آپ ﷺ کی حدیث ہے: "سورۃ البقرۃ کی آخر کی دو آیتیں جو رات میں پڑھے گا، تو وہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہوں گی" (7)۔

• جو دعائیں بندہ مسلم کو گھر سے نکلے کے بعد (بازن اللہ) محفوظ رکھتی ہیں، ان میں گھر سے نکلنے کی دعا بھی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب آدمی اپنے گھر سے نکلے پھر کہے «بسم اللہ توکل علی اللہ لا حول ولا قوۃ إلا باللہ» اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میرا پورا پورا توکل اللہ ہی پر ہے، تمام طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے“ تو آپ نے فرمایا: اس وقت کہا جاتا ہے (یعنی فرشتے کہتے ہیں): اب تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی، اور تو بچا لیا گیا، (یہ سن کر) شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، تو اس سے دوسرا شیطان کہتا ہے: تیرے ہاتھ سے آدمی کیسے نکل گیا کہ اسے ہدایت دے دی گئی، اس کی جانب سے کفایت کر دی گئی اور وہ (تیری گرفت اور تیرے چنگل سے) بچا لیا گیا؟" (8)۔

• ان اذکار میں یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت و سلامتی طلب کی جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "اللہ سے (گناہوں سے) عفو و درگزر اور (مصیبتوں اور گمراہیوں

(6) اسے ابو داؤد (۵۰۷۴) اور ابن ماجہ (۳۸۷۱) نے روایت کیا ہے اور اسے البانی نے صحیح کہا ہے۔

(7) اسے بخاری (۴۰۰۸) اور مسلم (۸۰۷) نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(8) اسے ابو داؤد (۵۹۵) نے روایت کیا ہے اور شعیب ارناؤوط نے "التعلیق علی سنن أبی داؤد" میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

سے) عافیت طلب کرو کیونکہ ایمان و یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی" (9)۔

نبی ﷺ دعائے قنوت میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے: "وعافني فيمن عافيت" (10) یعنی: عافیت دے ان لوگوں میں شامل کر کے جنہیں تو نے عافیت دی ہے۔

نیز آپ ﷺ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك» (11) یعنی: اے اللہ! میں تیری نعمت کے زوال سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے، تیرے ناگہانی عذاب سے اور تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

- بیماریوں سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں جو اذکار وارد ہیں، ان میں انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ نبی ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے: «اللهم إني أعوذ بك من البرص، والجنون، والجذام، ومن سيئ الأسقام» (12) یعنی: "اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص، دیوانگی، کوڑھ اور تمام بری بیماریوں سے"۔
- آفت و شر سے کفایت و حفاظت سے متعلق جو اذکار اور احادیث وارد ہوئی ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، جو دعائی کتابوں میں مذکور ہیں، مثلاً ابن تیمیہ کی کتاب "الکلم الطیب"، نووی کی کتاب "الأذکار" اور قحطانی کی کتاب "الحسن المسلم" وغیرہ۔

سبحان خالق کورونا ومرسله
 علی العباد یربهم کیف هم ضعفا
 فیروس لیس یری بالعين من صغر
 لکن بأكثر سكان الدنا عصففا

(9) اسے ابو داؤد (۳۸۴۹) وغیرہ نے روایت کیا ہے اور شیخ شعیب ارناؤوط نے "التعلیق علی سنن أبی داؤد" میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

(10) اسے احمد (۱/۱۹۹) نے روایت کیا ہے اور المسند کے محققین نے حدیث نمبر (۱۷۱۸) کے تحت اسے صحیح قرار دیا ہے۔

(11) اسے مسلم (۲/۲۷۳۶) نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(12) اسے احمد (۳/۱۹۲) نے روایت کیا ہے اور المسند کے محققین نے کہا کہ: اس کی سند صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

کم اقتصاد هوی من بعد رفعته
 وعطل الناس عن سعي وعن سفر
 (أن لا مساس) شعاع الناس من قلق
 کم أمة أصبحت في عيشها شظفا
 حتى الحبيبان عن بعد سلامهما
 سبحان خالق كورونا ومرسله
 لعلهم أن يفيقوا بعد غفلتهم
 لعلهم أن يحسوا نعمة كفرت
 لعلنا أن نرى حلم الكريم بنا
 يا رب عجل بيسر بعد ما عسرت
 وكم حراك على ذي الأرض قد وقفا
 رهن البيوت كفص لازم الصدفا
 كل يحاذر من لمس له تلفا
 كانت تبختر في نعمائها ترفا
 مثل الشحيح زوى الكفين والكتفا
 مخوفا خلقه من بأسه أسفا
 ويخلعوا الكبر والطغيان والأنفا
 كم من نعيم نسي من طول ما ألفا
 فلو يشاء بنا في لحظة خسفا
 وافرج علينا فشهرا الصوم قد أظفا⁽¹³⁾

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے کورونا کو پیدا کیا اور بندوں کے پاس بھیجا تا کہ انہیں دکھا سکے کہ وہ کتنے کمزور ہیں۔ ایک ایسا وائرس جو اتنا چھوٹا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جاسکتا، پھر بھی اس نے دنیا کے اکثر وبیشتر باشندوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کتنے ہی ایسے اقتصاد ہیں جو بڑھنے کے بعد گھٹ گئے، روئے زمین کی کتنی ہی ایسی سرگرمیاں ہیں جو ٹھہر گئیں۔ لوگوں کی دوڑ بھاگ اور سفر کو معطل کر دیا، وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے جس طرح موتی اپنے سیپ میں محصور ہوتا ہے۔ خوف و ہراس سے لوگوں کا شعاریہ بن گیا کہ (کوئی کسی کو نہ چھوئے) ، ہر کسی کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چھونے سے کہیں اسے نقصان نہ لاحق ہو جائے۔ کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جن کی زندگی تنگ اور دشوار ہو گئی، جب کہ وہ ناز و نعم میں کبر و غرور اور عیش و طرب کی زندگی جی رہی تھیں۔ یہاں تک دو محبوب بھی دور سے ہی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اس بخیل کی طرح جو اپنی ہتھیلیوں اور بازوؤں کو (خرچ کرنے کے ڈر سے) سمیٹ کر رکھتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے کورونا کو پیدا

(13) یہ اشعار ڈاکٹر علی بن یحییٰ الحدادی کے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔

اکیا اور اسے بندوں کے پاس بھیجا، تاکہ وہ مخلوق کو اپنی پکڑ اور غصہ سے ڈرا سکے۔ شاید کہ وہ غفلت کے بعد ہوش کے ناخن لیں اور کبر و غرور، سرکشی اور انانیت کی چادر اتار پھینکیں۔ شاید کہ وہ اس نعمت کو محسوس کر سکیں جس کی ناشکری کی جاتی رہی ہے، کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں جو لمبی مدت تک حاصل رہنے کی وجہ سے فراموش کر دی گئیں۔ امید کہ ہم اپنے تئیں کریم و داتا پروردگار کی بردباری کا مظہر دیکھیں، اگر وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی ہمیں زمیں دوز کر دے۔ اے پروردگار! تنگی کے بعد جلد ہمیں آسانی عطا فرما اور ہماری پریشانی کو دور کر دے کہ ماہ رمضان قریب آچکا ہے۔

• اے اللہ کے بندو! یہ وبا ہماری جانوں کے لئے خطرناک ہے، وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جو مومنوں سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کے حضور گریہ و زاری کے ساتھ سلامتی کی دعا کریں، کیوں کہ زندگی ایک نعمت ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو ان کی روحوں پر امین بنایا ہے، جیسا کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: "یقیناً تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے" (14)۔

• نیز یہ بھی جان رکھیں۔ اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی چیز کا حکم دیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔

(14) اسے احمد (۶/۲۶۸) وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور المسند کے محققین نے حدیث نمبر (۲۶۳۰۸) کے تحت اسے حسن قرار دیا ہے، اس کی اصل صحیحین میں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی روایت سے موجود ہے۔

نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: "تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعہ کا دن بھی ہے، اسی دن آدم پیدا کئے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن صور پھونکا جائے گا¹⁵۔ اسی دن چیخ ہوگی¹⁶۔ اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیوں کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے"¹⁷۔ اے اللہ! تو اپنے بندے اور رسول محمد پر رحمت و سلامتی بھیج، تو ان کے خلفاء، تابعین عظام اور قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہو جا۔

اے اللہ! ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور توبہ کے ذریعے ہی دور ہوتی ہے، ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے دربار میں اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہماری پیشانیاں توبہ کے ساتھ تیرے درپر جھکی ہیں، اے اللہ! ہم سے وبا کو دور فرما دے، ہم مسلمان ہیں، اے ہمارے رب! ہم سے بلا کو دور فرما، یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب! ہم سے بلا کو دور فرما، یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ اے اللہ! جو مسلمان اس وبا کی وجہ سے فوت پا گئے ہیں، ان پر رحم فرما، جو بیمار ہیں، انہیں اجر و ثواب اور عافیت و تندرستی سے نواز، اے اللہ! ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ! ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ! ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے نجات بخش۔

● سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

از قلم:

15 یعنی صور میں دوسری بار پھونک مارا جائے گا، اس سے مراد وہ صور ہے جس میں اسرائیل پھونک ماریں گے، یہ وہ فرشتہ ہیں جن کو صور میں پھونک مارنے پر مامور کیا گیا ہے، جس کے بعد تمام مخلوق اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

16 یعنی جس سے دنیاوی زندگی کے آخری مرحلے میں لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور سب کے سب مرجائیں گے، یہ بے ہوشی اس وقت پیدا ہوگی جب صور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا، دو پھونک کے درمیان چالیس سالوں کا فاصلہ ہوگا۔

17 اسے نسائی (۱۳۷۳)، ابو داؤد (۱۰۴۷)، ابن ماجہ (۱۰۸۵) اور احمد (۸/۴) نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح ابی داؤد میں اور المسند کے محققین نے حدیث نمبر: (۱۶۱۶۲) کے تحت اسے صحیح کہا ہے۔

ماجد بن سليمان الرسى

١٢ رجب ١٤٤٢

شهر جيبيل - سعودى عرب

ترجمه: سيف الرحمن حفظ الرحمن تيبى

binhifzurrahman@gmail.com